



الرَّحْمَنُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وہ جو نہایت مہربان ہے۔

الرَّحْمَنُ^{لا}

اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔

عَلَّمَ الْقُرْآنَ^ط

اسی نے انسان کو پیدا کیا۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ^{لا}

اسی نے اسکو بولنا سکھایا۔

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ^ط

سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ^{لا}

اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدْنَ^ط

اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی۔

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ^{لا}

الَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو۔

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا

اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم
مت کرو۔

تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾

اور اسی نے خلقت کے لئے زمین بچھائی۔

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ

اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جنکے
خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔

الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾

اور اناج جنکے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار
پھول۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١٣﴾

تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون
کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی
مٹی سے بنایا۔

كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾

اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١٦﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿١٨﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾

اسی نے دو دریا رواں کئے جو آپس میں ملتے ہیں۔

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢١﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٣﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں
کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب
جلال و کرم ہے باقی رہے گی۔

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
وَإِلْكَرَامِ ﴿٢٧﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی
سے مانگتے ہیں۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں
ہوتا ہے۔

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٠﴾

اے دونوں جا عموماً ہم عنقریب تمہاری طرف
متوجہ ہوتے ہیں۔

سَنفَرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَيْنِ ﴿٦٦﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٧﴾

اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ
آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو
نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے
نہیں۔

يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ
أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا
بِسُلْطَنِ ﴿٦٨﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٩﴾

تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ
دیئے جائیں گے تو پھر تم انکا مقابلہ نہ کر سکو
گے۔

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ
وَأُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ ﴿٧٠﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧١﴾

پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً
كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾

تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اسکے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ
وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾

گنہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لئے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکر لئے جائیں گے۔

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ
بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٢﴾

یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا
الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾

وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے
درمیان گھومتے پھریں گے۔

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ اِنْ^ج
٤٤

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اُتُكِّدِبْنَ^ع
٤٥

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے
ہونے سے ڈرا اسکے لئے دوباغ ہیں۔

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ^ج
٤٦

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اُتُكِّدِبْنَ^ل
٤٧

ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم
کے میووں کے درخت ہیں۔

ذَوَاتَا اَفْنَانٍ^ج
٤٨

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اُتُكِّدِبْنَ^ع
٤٩

ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں۔

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيْنَ^ج
٥٠

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اُتُكِّدِبْنَ^ع
٥١

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾

ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٣﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ
إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

اہل جنت ایسے پچھونوں پر جنکے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٥﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ
إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾

ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنکو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٧﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

كَأَنَّهِنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦١﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴿٦٢﴾

اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٣﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

مُدْهَامَتَيْنِ ﴿٦٤﴾

دونوں خوب گہرے سبز۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٥﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

فِيهِمَا عَيْنُ نَضَّاخَتَيْنِ ﴿٦٦﴾

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں۔

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٧﴾

ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٧٨﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٩﴾

ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧١﴾

وہ تھریں ہیں جو نیموں میں محفوظ ہیں۔

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٣﴾

انکو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ
لگایا اور نہ کسی جن نے۔

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا
جَانٌّ ﴿٧٤﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٥﴾

سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر بیچے لگانے
بیٹھے ہوں گے۔

مُتَكِبِينَ عَلَىٰ رَأْفٍ خُضِرٍ
وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹلاؤ گے؟

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٧﴾

اے نبی ﷺ تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و
کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

